

# Psa

## Chapter 64

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

תִּזְכֹּר	אֹיֵב	מִפְחָד	בְּשִׁיחִי	קוֹלִי	אֱלֹהִים	שָׁמַע-	לְדָוִד:	מִזְמוֹר	לְמִנְצֵחַ	1
حفاظت-گر	دشمن	من-ڈر	ب-سوچ-میری	آواز-میری	خدا	سن-	ل-داؤد	مزمور	ل-مُنصَح	
<a href="#">H5341</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H6343</a>	<a href="#">H7879</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H1732</a>	<a href="#">H4210</a>	<a href="#">H5329</a>	

חַיִּי:

زندگی-میری

رکھ۔ محفوظ سے دہشت کی دشمن زندگی میری ہوں۔ کرتا پیش زاری و آہ اپنی میں جب سن اللہ، اے لئے۔ کے رہنما کے موسیقی زبور۔ کا داؤد

תְּסִיֵּרֵנִי	מִסוֹד	מְרַעִים	מִרְנַנְת	פְּעִלִי	אָוֶן:	2
چھپا-مجھے	من-مشورے	بدکاروں	من-بنگامے	گرنے-والوں-	بدی	
<a href="#">H5641</a>	<a href="#">H5475</a>			<a href="#">H6466</a>	<a href="#">H0205</a>	

ہیں کرتے کام غلط جو سے چل بل کی اُن رکھ، چھپائے سے سازشوں کی بددعاؤں مجھے

אֲשֶׁר	שָׁנְנוּ	בְּחֶרֶב	לְשׁוֹנֵם	דָּבַר	קוֹר:	3
چنھوں نے	تیز-کی	ک-تلوار	زبان-اُن-کی	تیر-اُن-کا	بات	
<a href="#">H8150</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H1869</a>	<a href="#">H2671</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H4751</a>

ہیں رکھتے تیار طرح کی تیروں کو الفاظ زہریلے اپنے اور کرتے تیز طرح کی تلوار کو زبان اپنی وہ

לִירוֹת	בְּמִסְתָּרִים	תָּם	פְּחָאֵם	יָרְהוּ	וְלֹא	יִירָאוּ:	4
ل-چلانے	ب-پوشیدہ	بے-عیب	اچانک	چلاتے-اُسے	و-نہیں	ڈرتے	
<a href="#">H4565</a>	<a href="#">H8535</a>	<a href="#">H6597</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3372</a>		

ہیں۔ دیتے برساً پر اُس اُنہیں سے بے باکی اور اچانک وہ چلائیں۔ پر بے قصور اُنہیں کر بیٹھ میں تاک تاک۔

יִחְזְקוּ-	וְלָמוּ	דָּבַר	רָע	יִסְפְּרוּ	לְטָמוֹן	מוֹקְשִׁים	אָמְרוּ	מִי	יִרְאֶה-	לָמוּ:	5
مضبوط-کرتے-	ل-اُنہیں	بات	بُری	بیان-کرتے	ل-چھپانے	پھندے	گتے	گون	دیکھے-	ل-اُنہیں	
<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H1697</a>				<a href="#">H2934</a>	<a href="#">H4170</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H7200</a>		

ہیں، کہتے وہ لگائیں؟ کر چھپا طرح کس پھندے اپنے ہم کہ ہیں لیتے مشورہ سے دوسرے ایک کرتے، افزائی حوصلہ کی دوسرے ایک میں کرنے کام بُرا وہ گے۔ اُنہیں نہیں نظر بھی کو کسی یہ

יִחְפְּשׁוּ-	עוֹלֹת	תָּמוֹנוּ	חִפְּשׁוּ	מִחֻפְּשׁוּ	יִקְרַב	אִישׁ	וְלֵב	עֵמֶק:	6
ڈھونڈتے-	ظلم	پورا-کیا	تلاش	تلاشی	و-اندر	آدمی	و-دل	گہرا	
<a href="#">H2664</a>	<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H2665</a>	<a href="#">H2664</a>	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H6013</a>			

باطن کے انسان یقیناً ہے۔ ہوا تیار بعد کے بچار سوچ منصوبہ ہے، گنی بن بات چلو، ہیں، کہتے پھر کرتے، تیاریاں کی منصوبوں بُرے سے باریکی بڑی وہ ہے۔ ہی مشکل پہنچنا تک تہہ کی دل اور

וַיִּרֶם	אֱלֹהִים	חַץ	פְּתָאוֹם	קָיו	מִכּוֹתָם:	7
و-چلایا-اُنہیں	خدا	تیر	اچانک	ہوئے	زخم-اُن-کے	
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2671</a>	<a href="#">H6597</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4347</a>		

گے۔ جائیں ہو زخمی وہ ہی اچانک اور گا، برسائے تیر پر اُن اللہ لیکن

וַיִּבְשְׁלִיחוּהוּ	עָלִימוּ	לְשׁוֹנֵם	יִתְנַדְּרוּ	כָּל-	רָאָה	כָּם:	8
و-گرایا-اُسے	علی-اُن	زبان-اُن-کی	پل-جائیں	سب-	دیکھنے-والا	ب-اُن	
<a href="#">H3782</a>	<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H5074</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7200</a>			

گا۔ کہے توبہ۔ ۱۱ توبہ وہ گا دیکھے انہیں بھی جو گے۔ جائیں گر کر کھا ٹھوکر سے زبان ہی اپنی وہ

9	וַיִּירָאוּ	כָּל-	אָדָם	וַיְגִידוּ	פְּעַל	אֱלֹהִים	וּמַעֲשָׂהוּ	הַשְּׂכִילוֹ:
	وَدَرے	سب-	آدم	و-بیان-کیا	کام	خدا	و-عمل-اس-کا	سمجھے
	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H6467</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4639</a>	

بے۔ کام کا اسی یہ کہ گی آئے سمجھ انہیں کیا! ۱۱ یہ نہ ہی ۱۱ اللہ گے، کہیں کر کھا خوف لوگ تمام تب

10	יְשׁוּעָה	צְדִיק	בִּיהוָה	וַחֲסָה	בּוֹ	וַיִּתְהַלָּלוּ	כָּל-	יִשְׂרָאֵל-	לֵב:
	خوش-ہو	صابق	ب-یہوہ	و-پناہ-لے	ب-اس	و-فخر-گریں	سب-	سیدھے-	دل
	<a href="#">H8055</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2620</a>			<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3477</a>	

گے۔ کریں فخر سب وہ ہیں دار دیانت سے دل جو اور گا، لے پناہ میں اس کر منا خوشی کی اللہ باز راست